



کرکٹ کمیٹی کا اجلاس کل کراچی میں ہوگا

- کرکٹ کمیٹی سے متعلق چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا انٹرویو [یہاں](#) موجود ہے
- اجلاس کی فوٹیج اور تصاویر پی سی بی فراہم کرے گا

کراچی، 18 فروری 2020ء:

اقبال قاسم کی سربراہی میں قائم کردہ نئی کرکٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس 19 فروری بروز بدھ کو کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں ہوگا۔

یہ سال 2020 میں پی سی بی کی کرکٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوگا۔

اجلاس کے ایجنڈے میں شامل اہم نکات، مندرجہ ذیل ہیں:

- قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق اجلاس میں شرکاء کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھلاڑیوں کے انتخاب کا طریقہ کار اور ٹیم کی کارکردگی پر بریفنگ دیں گے
- عروج ممتاز، ویمنز کرکٹ پر اپ ڈیٹ فراہم کریں گی
- اجلاس میں حالیہ ٹومیسٹک سیزن کے علاوہ پچز کے معیار سے متعلق اینڈی اٹکنسن کی جانب سے فراہم کردہ رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا

اجلاس کی کارروائی سے متعلق تفصیلات 20 فروری کو جاری کی جائیں گی۔

- ENDS -

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad
Editor – Urdu Content
Media and Communications
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk
M: +92 (0) 345 474 3486
W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk 
[@therealpcb](https://www.instagram.com/therealpcb) 
[@PakistanCricketBoard](https://www.facebook.com/PakistanCricketBoard) 
[@PakistanCricketOfficial](https://www.facebook.com/PakistanCricketOfficial) 
[@therealpcb](https://www.instagram.com/therealpcb) 

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4